

مارتھاز رُول

:(Martha's Rule)

اگر آپ کسی فرد کی بگڑتی طبیعت کے

حوالے سے فکر مند ہیں

تو ہم سے بات کریں

آپ خود کو اور اپنے زیر نگہداشت افراد کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نمودار ہونے والی معمولی تبدیلیاں نگہداشت پر مامور ٹیم سے بھی پہلے نظر آ جائیں۔ یہ تبدیلیاں صحت کی بگڑتی ہوئی حالت کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں۔

مارتھاز رُول کیا ہے؟

ہم نے مارتھاز رُول متعارف کروایا ہے تاکہ بگڑتی طبیعت کی کسی بھی غیر متوقع علامات کو جلد شناخت کیا جا سکے۔ مارتھاز رُول آپ کو یہ استحقاق دیتا ہے کہ اگر آپ کسی فرد کی طبیعت مزید بگڑنے کے حوالے سے فکر مند ہیں تو آپ فوری جائزے کے لیے درخواست کر سکیں۔

ہم مریضوں کی نگرانی کیسے کرتے ہیں

جب کوئی فرد اسپتال میں قیام پذیر ہوتا ہے، تو ہم باقاعدگی سے اس کا بلڈ پریشر، درجہ حرارت اور صحت کے حوالے سے دیگر اہم پیمائشیں لیتے ہیں۔ یہ پیمائشیں کتنے تسلسل کے ساتھ لی جاتی ہیں اس بات کا انحصار اُس فرد کی انفرادی طبیعت اور ضروریات پر ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہمیں یہ پیمائشیں لینے کے لیے مریضوں کو جگانا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، ہم روزانہ کم از کم ایک بار پوچھیں گے کہ وہ طبیعت بہتر محسوس کر رہے ہیں یا مزید ناساز۔ ایسا اُن کی طبیعت میں کسی بھی غیر متوقع تبدیلیوں کی نگرانی کے لیے کیا جاتا ہے۔



آپ کا کردار انتہائی اہم ہے

بگڑتی طبیعت کی ابتدائی علامات کی نشاندہی میں ہماری مدد کرنے کے لیے، اگر آپ درج ذیل حوالوں سے پریشان ہوں تو براہ کرم ہمیں آگاہ کریں:

- درجہ حرارت میں تبدیلیاں - زیادہ گرم یا ٹھنڈا محسوس ہونا
- جلد میں کسی بھی قسم کی تبدیلیاں، مثلاً، پیلا پن، ریشز (یہ سیاہ یا بھوری جلد پر ذرا مشکل سے نظر آتے ہیں)، یا چھالے یا دانے ہونا
- درد میں اضافہ ہونا
- توانائی میں کمی یا غیر معمولی نیند آنا
- پیاس محسوس کرنا یا پیشاب کم آنا
- سانس لینے کی شرح میں تبدیلیاں
- غیر معمولی دماغی گھبراہٹ
- کوئی بھی دیگر بات جو آپ کو فکرمند کرے

ہمارے اسٹاف کو ان تبدیلیوں سے آگاہ کرنا ہمیں صحت کی بگڑتی ہوئی کیفیت کی جلد تشخیص میں مدد دے سکتا ہے تاکہ ہم صحت کو لاحق زیادہ سنگین مسائل سے بچاؤ کے لیے اقدامات کر سکیں۔

ہمارا عزم

ہم باقاعدگی سے آپ کے خیالات جانیں گے اور آپ کے خدشات کو سنجیدگی سے لیں گے۔ ہم آپ کو اپنی فراہم کردہ نگہداشت کی سروس میں ایک پارٹنر سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تمام خدشات اور تشویشات کے بارے میں بات کریں۔

فکرمندی کی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے

- 1 اپنی یا اپنے زیر نگہداشت فرد کی دیکھ بھال پر مامور ٹیم سے بات کریں۔
- 2 اگر آپ کو پھر بھی تشویش رہے اور محسوس کریں کہ نگہداشت کرنے والی ٹیم آپ کے خدشات پر توجہ نہیں دے رہی، تو فوری جائزے کے لیے کال کریں۔ اسٹاف کے کسی بھی رکن سے یہ کام کرنے کا طریقہ دریافت کریں یا ہمارے مارتھاز رولز کے پوسٹرز دیکھیں، جن پر فون نمبر درج ہے۔

آپ کی درخواست ہمارے اسپتال کی ایک مختلف ٹیم کے پاس جائے گی، جو بہت زیادہ بیمار مریضوں کی نگہداشت میں مہارت رکھتی ہے۔ یہ ٹیم آپ اور آپ کی نگہداشت پر مامور ٹیم کے ساتھ کام کرے گی تاکہ ضروری علاج یا مزید جائزے کا بندوبست کیا جا سکے۔ یہ سروس دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن دستیاب ہے۔



مارتھاز رولز کے بارے
میں مزید جاننے کے لیے
یہاں اسکیں کریں۔

آپ ایسا کر کے ہمیں پریشان نہیں کریں گے - ہم تو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں۔

